



پی سی بی نے ویمنز سینٹرل کنٹریکٹ برائے 2022-23 کا اعلان کر دیا

لاہور، یکم جولائی 2022ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2022-23 کے لیے ویمنز سینٹرل کنٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کردہ کنٹریکٹ میں مجموعی طور پر 20 خواتین کرکٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ کنٹریکٹ میں 8 کھلاڑیوں کو ترقی جبکہ 3، طوبہ احسن، گل فیروزہ اور صدف شمس کو پہلی مرتبہ سینٹرل کنٹریکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔

سیزن 2021-22 میں عمدہ کارکردگی کی بدولت سدرہ امین، غلام فاطمہ اور ارم جاوید کو دوبارہ سینٹرل کنٹریکٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

مئی میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ویمن پلیئر آف دی مینٹھ کا ایوارڈ جیتنے والی 21 سالہ طوبہ احسن کو سینٹرل کنٹریکٹ کی ڈی کٹیگری کا حصہ بنایا گیا ہے۔

طوبہ احسن کا کہنا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ سینٹرل کنٹریکٹ ملنے پر بہت خوش ہیں۔ بالآخر انہیں اپنی سخت محنت کا صلہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کی تمام تر توجہ میدان میں عمدہ کارکردگی پیش کرنے پر مرکوز ہے، وہ اب اپنی محنت دوگنی کر دیں گی۔

طوبہ احسن نے کہا کہ وہ اس سفر میں بھرپور ساتھ دینے پر اپنی تمام سینئر کھلاڑیوں، دوستوں، اہل خانہ اور اسپورٹ اسٹاف کی مشکور ہیں۔ ان کا واحد مقصد پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ خود سے جڑی تمام توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔

سینٹرل کنٹریکٹ میں ترقی پانے والی کھلاڑیوں میں ندا ڈار اور عالیہ ریاض کو کپتان بسمہ معروف کے ہمراہ اے کٹیگری کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح انعم امین، فاطمہ ثناء، نشرہ سندھو اور عمیمہ سہیل کو بی کٹیگری میں شامل کر لیا گیا ہے۔ منیبہ علی اور عائشہ نسیم کو کٹیگری سی کا حصہ بنایا گیا ہے۔

سیزن 2021-22 میں قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے پر جویریہ خان کو سی کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔

اسماویہ اقبال، چیئر آف ویمنز سلیکشن کمیٹی:

چیئر آف ویمنز سلیکشن کمیٹی اسماویہ اقبال کا کہنا ہے کہ 8 کھلاڑیوں کا ترقی اور 3 کا پہلی مرتبہ سینٹرل کنٹریکٹ پانادر حقیقت پاکستان خواتین کرکٹ کے درست سمت میں آگے بڑھنے کی نشاندہی کرتا ہے تاہم انہیں اب بھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ سیزن 2022-23 میں جتنی زیادہ کرکٹ کھیلنے کو مل رہی ہے، وہ پر امید ہیں کہ اس سیزن کے اختتام پر پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم ایک مزید بہتر سائیڈ بن کر سامنے آئے گی۔

انہوں نے کہا کہ سینٹرل کنٹریکٹ نہ صرف کھلاڑیوں کی گزشتہ سیزن میں عمدہ کارکردگی کا صلہ ہوتا ہے بلکہ یہ انہیں آئندہ سیزن میں بھی مزید بہتر کھیل پیش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

اسماویہ اقبال نے کہا کہ وہ گزشتہ سیزن میں بھرپور عزم اور لگن کا مظاہرہ کرنے پر تمام کھلاڑیوں کی مشکور ہیں، وہ امید کرتی ہیں کہ یہ تمام کرکٹرز آئندہ سیزن کے دوران کا من ویلتھ گیمنز، آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ اور آئی سی سی ویمنز ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی۔

ویمنز سینٹرل کنٹریکٹ برائے 2022-23ء:

کنٹیگری اے: بسمہ معروف، ندا ڈار اور عالیہ ریاض

کنٹیگری بی: انعم امین، ڈیانابیک، فاطمہ ثناء، نشرہ سندھو اور عمیمہ سہیل

کنٹیگری سی: عائشہ نسیم، منیبہ علی، جویریہ خان، سدرہ امین اور سدرہ نواز

کنٹیگری ڈی: غلام فاطمہ، گل فیروزہ، ارم جاوید، کائنات امتیاز، سعدیہ اقبال، صدف شمس اور طوبہ احسن

-ENDS-

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Assistant Manager – Media and Communications

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.

The PCB's mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women's game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

HELP PREVENT CORONAVIRUS
Shauket Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre

-  WASH HANDS THOROUGHLY
-  KEEP YOUR DISTANCE
-  AVOID CROWDED PLACES
-  WEAR A MASK
-  COUGH & SNEEZE INTO A TISSUE OR ELBOW
-  STAY HYDRATED
-  STAY AT HOME IF YOU FEEL ILL

Commercial Partners

  

Broadcast & Live Streaming Partners

   
  

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium, Ferozpur Road Lahore, Pakistan, PO Box 54000
Tel: +92 42 35717231-4

 pcb.com.pk  [/PakistanCricketBoard](https://www.facebook.com/PakistanCricketBoard)  [/TheRealPCB](https://twitter.com/TheRealPCB)  [/TheRealPCB](https://www.instagram.com/TheRealPCB)  [/PakistanCricketOfficial](https://www.youtube.com/PakistanCricketOfficial)